



سوال

(338) محمد بن اسحاق بن یسار؟

جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

کیا محمد بن اسحاق (صاحب مغازی) ضعیف راوی ہے؟ (میں نے سنا ہے کہ آپ اسے ضعیف کہتے ہیں) (ناصر رشید راولپنڈی)

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

وعلیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

محمد بن اسحاق بن یسار اگر سماع کی تصریح کریں تو حسن الحدیث یعنی حسن درجہ کے راوی ہیں۔ (دیکھئے الکواکب الدرریہ ص 43، 42، دوسرا نسخہ 59-60)

بعض لوگ یہ دھوکا دیتے ہیں کہ وہ مغازی و سیر میں تو حسن درجہ کے راوی ہیں۔ مگر سنن و احکام میں ضعیف و کذاب ہیں حالانکہ مجموعہ محدثین نے سنن و احکام میں بھی انہیں حسن الحدیث و صدوق ہی قرار دیا ہے۔ مثلاً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ، ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، دارقطنی اور بیہقی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہم۔

تنبیہ:

آپ نے جو سنا ہے کہ میں "اسے ضعیف کہتا ہوں" یہ غلط بلکہ جھوٹ ہے میں تو ابن اسحاق مذکور کو جب سماع کی تصریح کریں حسن الحدیث سمجھتا ہوں) (شہادت منی 2000)

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

فتاویٰ علمیہ

جلد 1 - اصول، تخریج اور تحقیق روایات - صفحہ 624



محدث فتویٰ